



وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي

اور مجھ کو کیا گیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے حالانکہ تم سب کی بازگشت

تَرْجِعُونَهُ ۚ أَلَمْ يَخْلُقْنَا مِنْ دُونِهِ ۚ أَلَيْسَ لَهُ شُرَكَاءُ

جی جی کی طرف ہوگی۔ کیا میں اس سے چھوڑ کر ایسے خدا بناؤں کہ اگر (خدا سے) دشمن مجھے کوئی ضرر پہنچانا

الرَّحْمَنُ يَضُرُّكَ لَا تَعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُونَ

جائے تو ان کی سفارش میرے مجھ سے بھی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا ہی سکیں۔

إِنِّي إِذْ أَتَىٰ ظَلِمْتُ مَبِيعًا ۚ رَبِّي أَنَّمَا طَرَقْتُمُ

میں تو اس صورت میں کھل گیا تھا میں نے بجاؤنگا۔ سو (میں نے) سوچا کہ میں تو یقیناً تمہاری بددعا

فَأَسْمَعُونَ ۚ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي

پر ایمان لایا ہوں۔ (اس سے) کہا جائے گا کہ تو جنت میں چلا جا وہ کہے گا کہ کاش میری قوم کو لوگ

يَعْلَمُونَ ۚ يَمَا إِذَا قِيلَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ

جی۔ جان لے کہ مجھے میرے پروردگار نے کئی برسوں سے بندھا اور معززین میں سے

الْمُكْرَمِينَ ۚ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ

قرار دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر لہذا دینے کے لیے آسمان سے کوئی نذر

مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ ۚ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۚ إِنَّ

ہیں آسمان سے اور نہ ہیں آسمان کی کوئی ضرورت تھی۔ ان کی گرفتاری

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ۚ

کے لیے ایک ہی گانہ تھی کہ ایک وہ بچ کر رہے۔

يَحْسِرَةٌ عَلَىٰ الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا

بندوں کے حال پر کیا اسوں سے کوئی رسول بھی لنگے پاس ایسا نہیں آتا جس کی

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَمْلَكْنَا

یہ ہنسی نہ اڑاتے ہوں۔ کیا یہ انہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے ان سے پہلے

وقف غفران

مذکور

قلم سے لکھو اور پھر اسے پڑھو۔  
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں  
 ہر دل پہ لکھی جائیں اور ہر دل پہ  
 پڑھی جائیں۔ آمین۔  
 (۶۰۶)

**قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝**  
 کتنے کروہوں کو بلا کر دیا۔ کہ اب ان کے پاس پلٹ کر نہیں آئے۔  
**وَأَنَّ كُلًّا لَّمَّا جَمِيعٍ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝**  
 اور اس کے غیر چارہ ہی نہیں کہ وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور ان کو تو آمد و زہد میں بھی  
**الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ ۚ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَاثْمًا**  
 آنکے لئے ایک بجز ہے کہ ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں سے نئے پھل اور پھل پھل سے پیدا کر دیتے ہیں جن میں سے یہ  
**يَأْكُلُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ**  
 کھاتے ہیں۔ اور اس میں کمزوروں کے اور انکوروں کے باغ پیدا کر دیتے ہیں  
**وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۚ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا**  
 اور اس میں کھجور بھاد تھے ہیں تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھیں کھائیں اور اپنے  
**عَمَلِهِمْ أُيُّدِهِمْ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُوا لِرَبِّهِمْ الَّذِي خَلَقَ**  
 ہاتھوں کی حرکت سے کھجور کی ابا بھی شکر ادا کر لیتے؟ انترہ پر وہ ذات جس نے ہر چیز کے  
**الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ**  
 جوڑے جوڑے پیدا کر دیے اس کے لئے ہر زمین میں سے اگتی ہے اور ان کی نگرین کی ذات کی کیا  
**وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝** **وَأَيُّهُ لَّهُمُ الْبَيْتُ السَّلْطَنَةُ**  
 ان چیزوں کی بھی انکو نہیں جانتے۔ اور اس کے لئے ایک نشانی ہے جس میں سے ہم دن کو  
**النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلَمُونَ ۝** **وَالشَّمْسُ تَجْرِي**  
 کمال لاتی ہیں پھر بجلیک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور سورج کبھی ایک نشانی ہے جو اپنی ایک  
**لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝** **وَالْقَمَرُ**  
 مقرر تمام کی طرف چلا جاتا ہے یہ ایک بڑے زبردست صاحب علم کا مقرر کر دینا ہے۔ اور ہر کبھی ایک  
**قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝**  
 نشانی کی جگہ پر نہ لیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پلٹ کر نشانی کی کبھی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

۱۱

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں  
 ہر دل پہ لکھی جائیں اور ہر دل پہ  
 پڑھی جائیں۔ آمین۔  
 (۶۰۶)

قلم سے لکھو اور پھر اسے پڑھو۔  
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں  
 ہر دل پہ لکھی جائیں اور ہر دل پہ  
 پڑھی جائیں۔ آمین۔  
 (۶۰۶)

جو میں چاند ہر رات کو پہنچتا رہتا ہے۔ نہ کسی سے پہلے رہ جاتا ہے اور نہ کسی سے کچھ آگے بڑھتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَيْتُ

زسورت ہی کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑ جائے اور نہ رات ہی کی یہ قدرت ہے کہ دن

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ○ وَأَيُّكُمْ

سے آگے بڑھ جائے۔ حالانکہ یہ سب کسی ایک آسمان میں پھرتے رہتے ہیں۔ اور ایک شانسی لاکھ

أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُورِ ○ وَخَلَقْنَا

انہیں کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تھا۔ اور ان کے لیے (بھی)

لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ○ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ

وہی چیزیں پیدا کر دیں۔ نہریہ سوار ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ڈبو دیتے

فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ○ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا

ہم پر ان کا کوئی فریاد نہ ہوتا اور نہ یہ بچھڑائے جاتے۔ سوائے اسے کہ ہماری رحمت ہو اور ایک لمحہ

وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ○ وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ

کے بچے نفع پہنچانا (مذہب اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گزشتہ (گنہگاروں) سے ڈرو

أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ وَمَا

اور آئندہ (کے عذاب) سے خوف کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس

بَاتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

انکے پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں آتی جس سے یہ روگردان

مُعْرِضِينَ ○ وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا إِمَّا تُرِقُمُ اللَّهُ

نہ ہوتے ہوں۔ اور جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا اس میں تم کو رکھنا

قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَطْعَمَ مِنْ لَدُنْ

میں بھی (مزہ) کہ وہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں مومنوں سے یہ کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اتنا

لِشَاءِ اللَّهِ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

چاہتا تو خود کھلا دیتا (اس معاملہ میں) تم صرف غلطی میں ہو۔

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر تم بچے ہو تو یہ وعدہ (یعنی روز قیامت) کب تک آئے گا اور اتنا  
 نظر و ن الا صیحة و اجداة تاخذهم و هم یحتمون  
 غور نہیں کرتے کہ ایک سوچ ان کو کیا ایک ایک اور یہ لڑنے جملے ہی رہیں گے۔  
 فلا یستطیعون توصیة و لا الی اہلہم یرجعون  
 پس نہ اس وقت وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے مال میں سے کسی کو بھی بلا کر آئیں گے۔  
 و یفخر فی الصور فاذا ہم من الابدالی الذم  
 اور (دو بارہ) صورتوں کا جائیگا تو کیا ایک وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی حضور میں حاضر ہونے لگیں  
 یسئلون قالوا یویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا  
 ہلہ ہلہ جلتی لکینکے۔ کہتے ہو گے ہائے خرابی ہماری ہر کو ہماری خواجگاہ سے اٹھانے کے وہاں وہاں ہاں ہاں  
 ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا  
 ہی تودہ وقت ہر جگہ لایا کرتی تے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کو بھی لایا کرتی تھی۔ پس ایک ہی جگہ تو  
 صیحة و اجداة فاذا ہم جمیع لدیننا محضرون  
 ہوگی کہ کیا ایک وہ سب ہماری حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔  
 قالین ما تظلم نفس شیئا ولا یجزون الا ما کنتم  
 پس اس دن نہ تو کسی نفس پر کوئی ظلم کیا جائیگا اور نہ تم کو کوئی بدلہ دیا جائیگا سوائے اس کے جو عمل  
 تعملون ان اصحاب الجنة الیق مرفی شغل  
 تم کیا کرتے تھے جبکہ جنتی لوگ تو اس دن نہ آئے اڑانے  
 فکہون ہم وازواجہم فی ظل علی الاراک  
 ہوں گے وہ اور انکی بیسیاں جنتوں پر سایہ میں تلیہ لگائے  
 متکون لہم فیہا فاکہة و لہم ما یدعون  
 بیٹھے ہوں گے۔ انکے لیے جنت میں ہر وہ اور انکے لیے ہر وہ چیز وہ چاہیں گے وہ ہوں گی۔

و یقولون متى ہذا الوعد ان کنتم صدیقین  
 اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر تم بچے ہو تو یہ وعدہ (یعنی روز قیامت) کب تک آئے گا اور اتنا  
 نظر و ن الا صیحة و اجداة تاخذهم و هم یحتمون  
 غور نہیں کرتے کہ ایک سوچ ان کو کیا ایک ایک اور یہ لڑنے جملے ہی رہیں گے۔  
 فلا یستطیعون توصیة و لا الی اہلہم یرجعون  
 پس نہ اس وقت وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے مال میں سے کسی کو بھی بلا کر آئیں گے۔  
 و یفخر فی الصور فاذا ہم من الابدالی الذم  
 اور (دو بارہ) صورتوں کا جائیگا تو کیا ایک وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی حضور میں حاضر ہونے لگیں  
 یسئلون قالوا یویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا  
 ہلہ ہلہ جلتی لکینکے۔ کہتے ہو گے ہائے خرابی ہماری ہر کو ہماری خواجگاہ سے اٹھانے کے وہاں وہاں ہاں ہاں  
 ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا  
 ہی تودہ وقت ہر جگہ لایا کرتی تے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کو بھی لایا کرتی تھی۔ پس ایک ہی جگہ تو  
 صیحة و اجداة فاذا ہم جمیع لدیننا محضرون  
 ہوگی کہ کیا ایک وہ سب ہماری حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔  
 قالین ما تظلم نفس شیئا ولا یجزون الا ما کنتم  
 پس اس دن نہ تو کسی نفس پر کوئی ظلم کیا جائیگا اور نہ تم کو کوئی بدلہ دیا جائیگا سوائے اس کے جو عمل  
 تعملون ان اصحاب الجنة الیق مرفی شغل  
 تم کیا کرتے تھے جبکہ جنتی لوگ تو اس دن نہ آئے اڑانے  
 فکہون ہم وازواجہم فی ظل علی الاراک  
 ہوں گے وہ اور انکی بیسیاں جنتوں پر سایہ میں تلیہ لگائے  
 متکون لہم فیہا فاکہة و لہم ما یدعون  
 بیٹھے ہوں گے۔ انکے لیے جنت میں ہر وہ اور انکے لیے ہر وہ چیز وہ چاہیں گے وہ ہوں گی۔

اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر تم بچے ہو تو یہ وعدہ (یعنی روز قیامت) کب تک آئے گا اور اتنا  
 نظر و ن الا صیحة و اجداة تاخذهم و هم یحتمون  
 غور نہیں کرتے کہ ایک سوچ ان کو کیا ایک ایک اور یہ لڑنے جملے ہی رہیں گے۔  
 فلا یستطیعون توصیة و لا الی اہلہم یرجعون  
 پس نہ اس وقت وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے مال میں سے کسی کو بھی بلا کر آئیں گے۔  
 و یفخر فی الصور فاذا ہم من الابدالی الذم  
 اور (دو بارہ) صورتوں کا جائیگا تو کیا ایک وہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی حضور میں حاضر ہونے لگیں  
 یسئلون قالوا یویلنا من بعثنا من مرقدنا ہذا  
 ہلہ ہلہ جلتی لکینکے۔ کہتے ہو گے ہائے خرابی ہماری ہر کو ہماری خواجگاہ سے اٹھانے کے وہاں وہاں ہاں ہاں  
 ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا  
 ہی تودہ وقت ہر جگہ لایا کرتی تے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کو بھی لایا کرتی تھی۔ پس ایک ہی جگہ تو  
 صیحة و اجداة فاذا ہم جمیع لدیننا محضرون  
 ہوگی کہ کیا ایک وہ سب ہماری حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔  
 قالین ما تظلم نفس شیئا ولا یجزون الا ما کنتم  
 پس اس دن نہ تو کسی نفس پر کوئی ظلم کیا جائیگا اور نہ تم کو کوئی بدلہ دیا جائیگا سوائے اس کے جو عمل  
 تعملون ان اصحاب الجنة الیق مرفی شغل  
 تم کیا کرتے تھے جبکہ جنتی لوگ تو اس دن نہ آئے اڑانے  
 فکہون ہم وازواجہم فی ظل علی الاراک  
 ہوں گے وہ اور انکی بیسیاں جنتوں پر سایہ میں تلیہ لگائے  
 متکون لہم فیہا فاکہة و لہم ما یدعون  
 بیٹھے ہوں گے۔ انکے لیے جنت میں ہر وہ اور انکے لیے ہر وہ چیز وہ چاہیں گے وہ ہوں گی۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا

الْجُرْمُونَ ۝ أَلَمْ أَعْهَدْ لَكُمْ يَبْنِي آدَمَ أَنْ لَا

تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَإِنْ

أَعْبَدُونِي ذَهَابَ صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَقَدْ أَضَلُّ

مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا وَأَقَلَّمُوا تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝ هَذِهِ

جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

فَأَنَّى يَصِيرُونَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝ وَمَنْ

يَعْبُدِ الشَّيْطَانَ فَهُوَ كَرِيمٌ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ

لَكَانَ كَرِيمًا ۝ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا

فَيَقُولُوا سَحَابٌ مُمطرٌ ۝ وَإِن يَأْمُرُهُمْ رَبُّهُمْ

بِأَنْ يَذَرُونَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and translations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

دعوتِ حق

۲۳



خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاذَاهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَ

اسکو نطفہ سے پیدا کیا ہے پھر یکایک وہ کھلا جھگڑا اور بھگیا۔ اور

ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط قَالَ مَنْ مِثِّي

ہمارے ہی لیے اُس نے مثل بیان کی اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ میں کو جہنم میں

الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يَحِبُّهَا الَّذِي

کہ وہ خاک ہو جائیگی تندرہ کون کر دیکھا؟ تم کہدو کہ انکو وہی زندہ کر دیا جسے انکو

أَشْأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تھا اور وہ ہر مخلوق کے حال سے واقف ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ۝

جسے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی کہ اب تم

فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي

آسی سے سلگانے رہتے ہو آیا وہ جس نے آسمانوں

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ

کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ

يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝

ایسے ایسے اور پیدا کر دے۔ ضرور (قادر ہے) اور وہ بڑا پیدا کرنے والا (اورا) جانتو والا ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

یہ فقط ایسی کی شان ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو اُس سے صرف اتنا فرماؤ


كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَسِيرُ

کہ ہو پس وہ ہو جائے۔ پس منزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی حضور میں تم سب کی بازگشت ہوگی۔

یہی ہے کہ جس نے ہمیں نطفہ سے پیدا کیا اور ہمیں جھگڑا اور بھگیا۔ اور ہمیں خاک سے پیدا کیا اور ہمیں تندرہ سے پیدا کیا۔ اور وہ ہر مخلوق کے حال سے واقف ہے۔ اور وہ ہر درخت سے آگ پیدا کر دیا۔ اور وہ ہر چیز کا ارادہ کرے تو اُس سے صرف اتنا فرماؤ کہ ہو پس وہ ہو جائے۔ اور اسی کی حضور میں تم سب کی بازگشت ہوگی۔



Extensive marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and additional information.

سُوْرَةُ الصَّفَاتِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِ وَأَثْنَيْ عَشَرَ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (دو) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتے ہیں)

وَالصَّفَاتِ صَفَاءً ۚ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۚ

تسم پر صفت باندھ کر گھڑی ہوئی والوں کی۔ پھر تسم ہے بجز کئے والوں کی۔

فَالثَّلَاثِ ذِكْرًا ۚ إِنَّ الْهَكْمُ كَوَاحِدًا ۚ

پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ بیشک تمہارا معبود ضرور یکتا ہے۔

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

آسمانوں کا اور زمیں کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے انکو پڑھیں گے

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۚ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ

اور مشرقوں کا مالک ہے۔ یقیناً چنے اس دنیا کے آسمان کو

الدُّنْيَا زِينَةً ۚ لَكُمُ الْكُوفُ ۚ وَحَفْظًا

ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور ہر سرکش شیطان

مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ

کے لیے ان کو نگہبان بنایا ہے۔ اب وہ طوائف کی

إِلَى الْمَلَائِكَةِ ۚ وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ

کنسیوں میں نہیں لے سکتے اور ہر طرف سے انکو بھگانے لے مار

جَانِبٍ ۚ دَحُورًا ۚ وَكُلُّهُمْ عَذَابٌ وَأَصْحَابُ

بڑنی ہے اور یہ ان کے لیے بائدار عذاب ہے۔

لَا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهَا شَهَابٌ

سوائے اس کے کہ کوئی آگنی ہوئی بات لے بھاگا سو ایک ستاروں کو اسکا پھیلا



تعمیراتی  
یہاں  
کتابوں  
کا  
مجموعہ  
ہے  
اور  
ان  
کے  
موضوعات  
بہت  
مختلف  
ہیں  
اور  
ان  
کے  
مؤلفین  
بہت  
مشہور  
ہیں  
اور  
ان  
کے  
موضوعات  
بہت  
مختلف  
ہیں  
اور  
ان  
کے  
مؤلفین  
بہت  
مشہور  
ہیں

اور  
ان  
کے  
موضوعات  
بہت  
مختلف  
ہیں  
اور  
ان  
کے  
مؤلفین  
بہت  
مشہور  
ہیں  
اور  
ان  
کے  
موضوعات  
بہت  
مختلف  
ہیں  
اور  
ان  
کے  
مؤلفین  
بہت  
مشہور  
ہیں

اور  
ان  
کے  
موضوعات  
بہت  
مختلف  
ہیں  
اور  
ان  
کے  
مؤلفین  
بہت  
مشہور  
ہیں



ثاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِمُ أَهْمَ اشْدُ خَلْقًا أَمْ

تیا ہے۔ اب اُن سے پوچھو کہ از رو سے پیدائش یہ خود زیادہ مضبوط ہیں یا وہ

مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنْ طِينٍ

جن کو ہم نے پیدا کیا ہے یقیناً ہم نے انکو لُندار مٹی سے پیدا

لَا زَيْبٌ ۝ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا

کیا ہے بیات یہ کہ تمکو (اُنکے انکار سے) تعجب ہوا اور وہ (ہمارے تعجب کی آہٹیں اڑاتے ہیں)

ذَكَرُوا الْأَيُّدِ كُرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً

اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت نہیں مانتے۔ اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو

يَسْتَسْخَرُونَ ۝ وَقَالُوا لَئِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ

(اور زیادہ) ہنسی اڑاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو

مُبِينٌ ۝ عَمَّا ذُمُّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

ہے۔ کیا جب ہم مرجھائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو

عَمَّا تَالْمُتَعَوِّثُونَ ۝ أَوِ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝

کیا ہم پھر اٹھانے والے ہیں؟ آیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝ فَانصُرُونِي

تم کہہ دو ہاں بلکہ تم سب ذلیل ہو کر آؤ گے۔ پس وہ ایک چٹکی

زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَ

ہی تو ہوگی کہ وہ سب بیکار ایک (چروں کی شکل کر) دیکھتے اور کھینچتے ہیں۔ اور

قَالُوا أَيَوِيلَ لَنَا هَذَا أَيَوْمَ الدِّينِ ۝ هَذَا يَوْمُ

کھینچنے کے ہے خرابی ہماری ہی تو جزاؤں ہمارا کا دن ہے۔ (جو اب بیکار ہی بیکار)

الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ۝


کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے ہو کرتے تھے۔

تسلی

یہ ہم اہمیت کی بابت کہ ہم سے محبت رکھی یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو وہ تو خود بخود ہرگز نہیں آتا۔ اور اگر آتا ہے تو وہ تو خود بخود ہرگز نہیں آتا۔ اور اگر آتا ہے تو وہ تو خود بخود ہرگز نہیں آتا۔

أَحْسِرُ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْزُوا جَهَنَّمَ وَمَا كَانُوا  
 أَنْ يُلَاقُوا فِيهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ  
 الْجَنَّةِ ۖ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۚ مَا لَكُمْ لَا  
 تَنصَرُونَ ۚ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۚ وَ  
 أَقْبِلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۚ قَالُوا لَئِنْ كُنْتُمْ  
 تَأْتُونَنَا عَنِ الْبَيِّنِ ۚ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ  
 وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا  
 طَٰغِينَ ۚ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّ الَّذِي يَقُولُ  
 قَاغُو بَيْنَكُمْ إِنَّ كِتَابَ غُورِينَ ۚ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي  
 الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۚ إِنَّ الَّذِي تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۚ

یہ لوگوں کو جنہوں نے نافرمانیاں کی تھیں اور انکی ازواج کو اور خدا کے سوا جن جن کو  
 یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر لو پھر ان سب کو جہنم کا راستہ  
 بتا دو۔ اور انکو ٹھہرا لو کہ ان سے سوالات کیے جائیں۔ نہیں ہو کیا گیا ہے تم  
 ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنے۔ بلکہ اُس دن تو وہ بڑے تابعدار بنے ہوئے ہونگے۔ اور  
 ایک دوسرے کے پاس سوال کرتے ہوئے آئینگے کہتے ہوئے کہ تم تو ہماری ہی اس آیت  
 سے کہتے ہو کہ ہم نے تم کو ایمان سے لے کر اس کے یہی کہہ کر انکو جہنم کے راستے کی طرف بلا دیا ہے۔  
 اور ہمارا تم پر کوئی قابو تو تھا نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ  
 تھے پس ہم پر تو ہمارے رب کا قول پورا آتا کہ ہم ضرور (عذاب کا) مزہ چکھنے والے ہیں  
 سوہنے تم کو بھی بھگایا کہ ہم تو گمراہ تھے ہی۔ پس اُس دن وہ عذاب  
 میں بٹے بٹھے ہونگے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔  
 بیشک یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سوا خدا کوئی سبوتا نہیں ہے تو یہ اگر ظاہری کرتے تھے



یہ لوگوں کو جنہوں نے نافرمانیاں کی تھیں اور انکی ازواج کو اور خدا کے سوا جن جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر لو پھر ان سب کو جہنم کا راستہ بتا دو۔ اور انکو ٹھہرا لو کہ ان سے سوالات کیے جائیں۔ نہیں ہو کیا گیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنے۔ بلکہ اُس دن تو وہ بڑے تابعدار بنے ہوئے ہونگے۔ اور ایک دوسرے کے پاس سوال کرتے ہوئے آئینگے کہتے ہوئے کہ تم تو ہماری ہی اس آیت سے کہتے ہو کہ ہم نے تم کو ایمان سے لے کر اس کے یہی کہہ کر انکو جہنم کے راستے کی طرف بلا دیا ہے۔ اور ہمارا تم پر کوئی قابو تو تھا نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے پس ہم پر تو ہمارے رب کا قول پورا آتا کہ ہم ضرور (عذاب کا) مزہ چکھنے والے ہیں سوہنے تم کو بھی بھگایا کہ ہم تو گمراہ تھے ہی۔ پس اُس دن وہ عذاب میں بٹے بٹھے ہونگے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ بیشک یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سوا خدا کوئی سبوتا نہیں ہے تو یہ اگر ظاہری کرتے تھے





وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ

اور بیشک ان سے قبل پہلے والے بہت سے گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ ہم نے ان میں ڈراڑھوں کے

مُنذِرِينَ ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ۚ إِلَّا

مُذِرِينَ ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ۚ إِلَّا

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۚ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ

مخلص بندے اس کو کہتے ہیں۔ اور یقیناً نوح نے ہجو بگایا تھا پس ہم ہی تو سب

الْمُحِبِّينَ ۚ وَبَنِيَّاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ

اچھا جواب دیا اور انہیں اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف سے نجات دی

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۚ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي

اور ہم نے انہی اولاد کو ڈراڑھوں سے بچا دیا اور انہیں بچے آئیوں میں اسے (یعنی انہی

الْآخِرِينَ ۚ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّكَ لَكُلِّ

صفت دیکھنا کہ ان کے قصہ کو باقی رکھا۔ نوح پر تمام عالموں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو

تَجْزَى الْحُسَيْنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۚ ثُمَّ

اسی طرح ہر لادیا کرتے ہیں۔ وہ یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر

أَخْرَجْنَا الْأَخْرِينَ ۚ وَلَا تَنْ شَيْعَتِهِمْ إِلَّا بِرُحْمٍ ۚ

ہم نے انہیں نکال دیا اور انہیں ابراہیم کے پیروؤں میں سے تھے۔

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۚ إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا قَوْمِي

جبکہ وہ اپنے پروردگار کی حضور میں سالم قلب سے آئے۔ جو وقت کہ انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم

مَاذَا تَعْبُدُونَ ۚ أَيْفَا إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ ۚ

کہ لوگوں پر کیا کہم یہ کیا پوجتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جموئے خداؤں کے مرید بنتے ہو؟

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ فَظَرْ نَظْرَةً فِي الْجَعْمِ ۚ

تمام عالموں کو پروردگار کی نسبت تمہارا خیال کیا ہو؟ پھر ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی۔

Handwritten marginal notes at the top of the page, including phrases like 'وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ' and 'وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا'.

Handwritten marginal notes on the left side, including 'وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا' and 'وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا'.

Handwritten marginal notes on the left side, including 'وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا' and 'وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا'.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including 'وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا' and 'وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا'.

فَقَالَ رَبِّي سَقِيمٌ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝ فَرَغَ عَلٰى

اور یہ فرمایا کہ میں بیمار ہوں والا ہوں۔ پس یہ لوگ تو مجھ پر گھبرا کر گھبرا کر (اُدھر) گئے اور یہ سچ بچا ہوا

الْبَيْتِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝ مَا كُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۝

ان کے خدوں کی طرف گئے اور دریافت کیا کہ تم کچھ کھاؤ کیوں نہیں؟ یہ نہیں ہو گیا کیسا ہی بولتے کیوں نہیں؟

فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ۝ فَاقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَرْفُوْنَ ۝

اب تو چھپ چھپے ان پر دائیں ہاتھ کی ضرب کاڑ لگے۔ اب وہ لوگ منہ لاکر ان کی طرف آئے

قَالَ اتَّعْبُدُوْنَ مَا تَتَّخِطُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

فرمایا کیا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنی ہی ہاتھوں سے ترکتے ہو جلا انکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو

تَعْمَلُوْنَ ۝ قَالُوْا اَبْنُوْا لَنَا بَنِيًّا نَّاقًا لَّقَوْهٖ فِي الْاَجِيْمِ ۝

تم بناؤ ہونے کو بھی (بچہ) انہوں نے آپس میں کہا کہ تم اس کے لیے ایک ناک بناؤ پھر اس کو سخت آگ میں ڈالو۔

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ۝ وَقَالَ رَبِّي

پس اس طرح وہ ابراہیم کے لیے ایک چال چلے اسے جو انہی کو ذلیل کر دیا۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں

ذٰهَبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ۝ رَبُّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

اپنی روگاری طرف جانے والا ہوں کہ وہ عترت میری ابراہیم فرمائیگا۔ اسے تم پر درگاہ رکھے تاکہ لاؤ عطا فرما۔

فَبَشِّرْهُ بِبَعْلِ حَلِيْمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰرَبِّيْ

پس بتائے ان کو ایک بڑا دربار فرزند کی بشارت دی پس جب وہ (فرزند) آئے ساتھ چلتے پھر یہ کہ لائق ہوا تو

رَبِّيْ اَرَى فِى الْمُنٰمِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرٰى ۝

انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے میں خواب میں دیکھتا تھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں تو اب بتا کہ وہ تمہاری کوئی چیز

قَالَ يَا بَيْتَ اَفْعَلْ مَا تَوْحَرْتُ سِجْدَتِيْ لَانَ شَاءَ اللّٰهُ ۝

انہوں نے عرض کی یا جان آپ کو حکم ملے گا بالائے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو سہر کر سوا لوں

مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْحَيٰتِیْنَ وَنَادٰیہٗ

میں سے پائینے۔ پس جب دونوں ڈھلے اطاعت کیا اور یاب ذبح کو پیشانی کی جمل ٹھار دیا اور دونوں

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'بِسْمِ اللّٰهِ' at the top right.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

ان لا يرهبهم ۰ قد صدقت الرؤيا ۰ انا كذلك نجزي

اور وہی کہ اسے ابراہیم تم نے بیشک اپنا خواب سچا کر دیا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا

لحسنيين ۰ ان هذا هو البلاء المبين ۰ وقد بينه يد

دیا کرتے ہیں بیشک یہ کھلی آزمائش ضرور ہے۔ اور ہم نے اسکا ذریعہ ایک نبی قرآنی

عظيم ۰ وتركتنا عليه في الاخيرين ۰ سلمه على ابراهيم

مترکی ہے۔ اور اس کے گناہوں کو ہم نے آئندہ انبیاؤں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو۔

كذلك نجزي الحسينين ۰ لانه من عبادنا المؤمنين

نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں وہ یقیناً ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے

وبشرناه بالسحق نبيامن الصليين ۰ وبركتنا عليه وعلى

اور ہم نے انکو اسحق نبی کی خوشخبری دی جو صالحین میں سے تھے اور ہم نے ابراہیم اور اسحق پر بרכת

السحق ۰ ومن ذريتهما حسين وظالم لنفسه مبين

تازل کی حالانکہ ان دونوں کی اولاد میں ایک بھی ہونیوالی تھی اور کھلم کھلا اپنے آپ کو ظالم کر رہا ہے

ولقد مننا على موسى وهرون ۰ ونجيناهما قومهما من الكرب

اور بیشک ہم نے موسے اور ہارون پر احسان کیا۔ اور ہم نے ان دونوں کو اور انکی قوم کو سخت

العظيم ۰ وتصرتهم فكانوا هم الغلبين ۰ واتينهما

کھلی نجات دی۔ اور ہم نے انکی نصرت کی جس سے وہی غالب رہے۔ اور ہم نے ان دونوں کو پلین

الكتب المستبين ۰ وهدينهما الصراط المستقيم ۰

بیان والی کتاب عطا کی۔ اور ہم ہی نے ان دونوں کو راہ راست دکھائی۔

وتركتنا عليه في الاخيرين ۰ سلمه على موسى وهرون

اور ہم ہی نے آئندہ انبیاؤں میں انکا ذریعہ باقی رکھا۔ موسے اور ہارون پر سلام ہو۔

انا كذلك نجزي الحسينين ۰ لانهم من عبادنا

بیشک ہم نیکی کاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ دونو ہمارے ایماندار بندوں

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اور وہی کہ اسے ابراہیم تم نے بیشک اپنا خواب سچا کر دیا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا' and 'ان لا يرهبهم ۰ قد صدقت الرؤيا ۰ انا كذلك نجزي'.





الْحَوْتُ وَهُوَ مَلِيحٌ ۝ فَكَلَّا إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝

کھل گئی اور یہ آپ کو ملامت کرنے لگے۔ بس اگر یہ کہیں تسبیح کرنے والوں میں سے نہوتے تو

الَّذِي فِي بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمٍ يَبْعَثُوْنَ ۝ فَنَذَرُهٗ بِالْعَرَاءِ ۝

جس دن سب اٹھ اٹھ جائیں گے اس دن تک بچھلی کے پیٹ ہی میں رہے۔ پھر چھٹے آنگو ایک خالی جگہ میں الٹا

وَهُوَ سَقِيمٌ ۝ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۝

جس حال میں کہ وہ ناقوان تھے۔ اور اُنکے اوپر کدو کا ایک درخت اگا دیا۔ اور

اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدٌ ۝ وَاَمَنُوا مَتَّعْنَاهُمْ

آنگو ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پس وہ لوگ ایمان لائے اور پورا آنگو

اِلٰى حِيْنٍ ۝ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّيُّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ

ایک (مقررہ) وقت تک نفع پہنچایا۔ اب انہی سے پوچھو کہ کیا تیرے خدا کو دیکھتے تو بیٹیاں ہیں اور انکے بچے

الْبَنُوْنَ ۝ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ ۝

بیٹے؟ کیا ہم نے انکو دیکھا دکھا کر فرشتوں کو عورتوں میں پیدا کیا ہے؟

اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهمْ لَيَقُولُوْنَ ۝ وَاَلَا لَئِنْ اَوْ لَئِنْ

آگاہ رہو یہ یقیناً انکا بہتان ہے (جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی اولاد ہے اور یہ یقیناً

لَكٰذِبُوْنَ ۝ اَصْطَفٰى الْبَنَاتُ عَلٰى الْبَنِيْنَ ۝ مَا لَكُمْ مِّنْ

جھوٹے ہیں۔ کیا اُنے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں اختیار کر لیں؟ تمہیں ہو گیا کیا ہے

كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ اَفَلَا تَذْكُرُوْنَ ۝ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ

تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس کوئی کھلی حجت

مُؤَيِّنَةٌ ۝ فَاَنْتُمْ اِيْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَجَعَلُوْا

ہے؟ پس اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو اور انہوں نے خدا کے

بَيِّنَةٌ وَّ بَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ

اور جنات کے مابین رشتہ قرار دیا۔ حالانکہ جنات اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ یہ (مفتیٰ بنو)

بعض

بعض

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary.



عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝ سَبِّحْ

وقت تک کہ تم ان سے روگرداں ہو جاؤ اور دیکھتے رہو کہ کچھ عرصہ بعد ہی یہ دیکھ لینگے۔ تمہارا پروردگار صاحب عزت و عہدہ ان سب باتوں کو سن رہا ہے جو تم کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور تمام رسولوں پر

الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سلام ہو۔ اور ہر قسم کی تعریف تمام عالموں کے پروردگار اور ان کے رسولوں کے لیے ہے۔

سورة ص فکیتر وھی شان ثمانون ایتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ۚ بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا فِی

عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

فَنَادَوْا وَاُولٰٓئِكَ حِیْنَ مَنَاصِیْ ۝ وَیَجْمَعُوْنَ اَنْ جَاءَهُمْ

مِّنْذَرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝

اجْعَلْ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءَا وَاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجَابٌ ۝

وَاَنْطَلَقَ الْمَلٰٓئِمُ مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوا وَاَصْبِرُوْا عَلٰی الْهٰتِلِكُمْ

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a decorative floral emblem and various annotations.

Handwritten marginal note.



Handwritten marginal note.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the number ۲۳ and ۲۴.

اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ  
 هَذَا الْاِخْتِلَاقُ ۝ اَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا وَاَبْلَهُمْ  
 فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ ۙ اَمْرًا عِنْدَهُمْ  
 خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝ اَمْ لَكُمْ مَلِكٌ  
 السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا الْاَسْبَابَ  
 جُنْدًا مَّا هُنَّ لَكُمْ مَهْزُومَةٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ  
 قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحَابُ لُوطٍ وَّاَفْرَعُوْنَ ذُو الْاَوْتَادِ وَّمُؤَدُّو  
 وَتَوْمُ لُوطٍ وَّاَصْحَابُ لَيْكَةِ ۙ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝ اِنْ  
 اَلَا صَيْحَةٌ وَّاٰحِدَةٌ مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ  
 لَّنَا قِطْنَ اَقْبَلْ يَوْمَ الْحِسَابِ ۙ اَصْبِرْ عَلٰٓى مَا يَقُوْلُوْنَ

This column contains extensive handwritten commentary in Urdu, explaining the verses. It includes a large, stylized word 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' (La ilaha illa Allah) written vertically. The text discusses the meaning of the 'Parties' (ahzab) mentioned in the Quran, such as the people of Noah, Lot, and Pharaoh, and their respective punishments.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary and including the number ۲۵.





لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ لِي حَسَبٌ إِلَّا هُوَ ۚ وَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ لِي حَسَبٌ إِلَّا هُوَ ۚ وَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ لِي حَسَبٌ إِلَّا هُوَ ۚ

طوت بزار جوع کرنا والا تھا۔ (سوقت کو یاد کرو) جبکہ شام کو قرب آنکے سامنے غاصے کے میل گھوری شکر کے

فَقَالَ لِمَنِّي أَحَبُّتُ حَتَّى خَلَجْتُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ

تو کہنے لگے کہ میں نے مال کی قیمت میں ایسے پورے روگاری یاد چھوڑ دی یہاں تک کہ (سورج) پر دس میں

بِالْحِجَابِ ۚ دَرُّهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسَامًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيَانِ

چھپ گیا۔ انہیں میرے آگے پھر لانا لاؤ پھر انہوں نے بندھ لیں گوا در گزروں کو چھو کر کیا۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۚ وَالْقَيْنَا عَلَى كَرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ

اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور آنکلی کرسی پر ایک بیجان لاش ڈال دیا پھر انہوں نے

أَنَابَ ۚ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْتَغِي أَحَدٌ

رجوع کی۔ عرض کرنے لگے کہ اے میری پروردگار میری خطا میں بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے

مِن بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۚ فَسَفَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي

بیکسی اور کوسٹری نہ آتی بیشک تو بڑا عطا فرماؤ والا ہے۔ پس مٹی ہو اگو آنکے تاج کر دیا کہ وہ آگے بڑھ کر

بِأَمْرِ رُحَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ ۚ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَشَرٍ مِّنْ

جہاں چاہتا ہے آگے بڑھی وہ آسانی پہنچا دیتی تھی۔ اور شیطان کو اکھا مت کر دیا تھا وہ عمارتیں بنا کر

غَوَاصٍ ۚ وَآخِرِينَ مَقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ هَذَا

اور وہاں میں غوطا لگاؤ تھی۔ اور کچھ اور تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری

عَطَاؤُنَا فَامْنِ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا

دین ہے اب خواہ دوسروں کو عطا کرو یا نکل کر دیا اسکو متعلق حساب لیا یا نکل کر دیا اور یہاں سلیمان کو ہماری

لَزَلْنِي وَحَسَنَ مَا بٍ ۚ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ۚ مَلَأْنَا

تو یہ بھی حاصل تھا اور نیک انجام بھی۔ اور ہمارے بندہ ایوب کا ذکر کرو جو سوقت انہوں نے اپنی

رَبِّهِ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۚ أَرْكَضُ

کو چھڑا کہ شیطان نے مجھ کو رنج بھی پہنچایا ہے اور درد ناک تکلیف بھی۔ (یہ جواب پاک) کہ تم زمین پر

مَلَأْنَا بَطْنَهُ فَكَانَ يَنْصُرُ عِبَادَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَذَكَرْنَا

میں نے اس کے پیٹ کو بھرا دیا تو وہ ہمارے ایمان والوں کی مدد کرتا تھا۔ اور ہم نے

عَبْدَنَا إِسْمَاعِيلَ إِذْ قَرَّبَهُ ۚ وَذَكَرْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

ہمارے بندہ اسماعیل کو جب قرب کیا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and additional verses.

Vertical marginal notes on the left side of the page, continuing the commentary.

Vertical marginal notes on the right side of the page, continuing the commentary.





لَٰنَ هٰذَا الزَّرْقُمَا مَالَهُ مِنْ تَقَادٍ ۝ هٰذَا اَوْ اَمَانَ لِلطَّعِينِ

بیشک یہ ہمارا وہ عطیہ ہے جسکا خاتمہ ہو یو الا نہیں۔ یہ تو ہے۔ اور سرکشوں کے لیے ضرور

لَشَرِّ مَا ب ۝ هَمَّ يَصْلُوْنَهَا ۝ فَيْسَ الْهَادُ ۝ هٰذَا

انجام بڑا ہے (یعنی) جہنم جس میں وہ داخل ہونگے پس بہت ہی بڑا گھونا ہے۔ یہ تو ہے

فَلَيْدٌ وَقُوَّةٌ حَمِيمٌ ۝ وَعَشَاقٌ ۝ وَآخِرٌ مِنْ شَكْلِهِ

پس آپ سے کہ اسکی تمہیں کیسا کہوں یا پانی یا کو کسی پیچھے اور اسی شکل کے اور بہت ہی گروہ

اَزْوَاجٍ ۝ هٰذَا فَوْجٌ مَّقْتُولٌ مَعَكُمْ ۝ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ

ہونگے۔ یہ فوج کی فوج تمہارے ہی ساتھ تھنے والی ہے انکو کہیں ٹھکانا نہ ملے۔

لَا تَنْهَمُ صَالُو النَّارِ ۝ كَالْوَابِلِ اَنْتُمْ قَوْلًا مَرْحَبًا بِكُمْ ط اَنْتُمْ

یہ جی تم میں اصل ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے کہ تم ہی کو کہیں ٹھکانا نہ ملے تم نے تو

قَدْ مَقْتُولَةٌ لَنَا ۝ فَيْسَ الْقَرَارُ ۝ كَالْوَابِلِ اَنْتُمْ قَدْ مَلْنَا

ہمارے پہلے سے یہ تیار کیا ہے تو یہ کیسا بڑا ٹھکانا ہے۔ پھر عرض کرینگے کہ ای ہماری پروردگار نے یہ تمہارا لیے

هٰذَا اَفْزَدَةٌ عَدَا بَا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝ وَقَالُوا اَمَّا لَنَا لَنْ نَرِي

یہ تو تمہارا کیا تو اسی آگ میں اسکا عذاب دوگنا بڑھادے۔ اور وہ کہتے کہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو

رَجَا لَا كُنَّا نَعْدُهُمْ مِنْ الْاَشْرَارِ ۝ اَسْتَحْذَرْنَاهُمْ سَخِرْنَا مِنْهُمْ

نہیں دیکھتے جنکو ہم بدوں میں سے شمار کیا کرتے تھے۔ آیا انکو ہم نے سخوا بنا لیا تھا یا

رَاخَتْ عَنْهُمْ الْاَبْصَارُ ۝ اِنَّ ذٰلِكَ لِحَقِّ خَاصِمٍ اَهْلٍ

نگاہیں ان سے اچھری ہیں: بیشک یہ اہل جہنم کا آپس میں لڑنا برحق

النَّارِ ۝ قُلْ لَٰنَمَا اَنَا مُنْذِرٌ ۝ وَمَا مِّنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ

ہے۔ تم کہد کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور سوائے خدا کے یکتا اور بزدست کے کوئی اور موجود

الْقَهَّارُ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ

نہیں ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو چھو ان دونوں کو باہن پرانکا پروردگار بڑا بزدست (اور)

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary on the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

بیشک

بیشک



الْمَعْلُومِ ۚ قَالَ فَيُعْزِّتُكَ لَا غُيُوبَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ لَا أَعْبُدُكَ

اُسے عرض کی اب تیری ہی عزت کی قسم ان میں سے تیرے خالص بندوں کو چھوڑ کر اور تو میں

مِنْهُمْ الْخَالِصِينَ ۚ قَالَ فَالْحَقُّ زُ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۚ لَا مَلِكَ

سب ہی کو بگاؤنگا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہے دیتا ہوں میں بھی تجھ سے اور

جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

ان میں سے میری تیرے پروردگار کے لئے ان سب سے جہنم کو پاشی دونگا۔ تم کہہ دو کہ میں تو تم کو شیخ رہتا

عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۚ لَئِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

کا کوئی اجر مانگتا ہی نہیں اور تم میں تکلف کرنے والا آدمی ہوں۔ یہ تو تمام اہل عالم کے لیے ایک

لِلْعَالَمِينَ ۚ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۚ

نصیحت ہی اور اس کی اتنی خبر کچھ عرصہ کی بعد تم سب کو ضرور ہی معلوم ہو جائیگی۔

سورة الزمر مکیہ تھی خمس وسبعون آیتا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لَكَ

اس کتاب کا اتنا زبردست طہت والہندگی طرن سے ہے۔ یقیناً جتنے یہ کتاب تمہارے پاس حق کے

الْكِتَابِ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ فَخُلَصَالَهُ الدِّينِ ۚ أُولَئِكَ

ساتھ آماری ہے پس تم اطاعت کو خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرو۔ خبر دلو کہ اطاعت

الدِّينِ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ

خالص خدا ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اُس کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

ہم تو ان کی بخشش مرنا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے نزدیک کر دیں ضرور خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانے والا



آیاتنا  
حرفونہا  
کلماتنا  
۱۱۴۳

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and additional information.







اس آیت میں وہ کہہ رہے ہیں اور میں نے کسی ظالم کی اطاعت کی تو اسے گواہی کی پیش کی کہ اسے فیشیر عبادۃ الذین یستمعون القول فیتعون احسنہ کا نام ہے اور وہی نام ہے جو سورہ بقرہ میں ہے اور اس کی تفسیر صحافی میں ہے۔

ومالیہ ۲۳

۴۳۴

الزمکشر

ان اعبد الله مخلصا للدين و امرت لان اكون اول

کرمیں خدا کی عبادت کروں اور اسی کی اطاعت کو خالص کر لوں۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار

المسلمين قل لاني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم

الابتاء ہو جاؤں۔ تم یہ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا

عظيم قل الله اعبد مخلصا لديني فاعبدوا ما

اندر ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی اطاعت خالص رکھتا ہوں پس تم

سئتم من دونه قل ان الخسرين الذين خسروا

آپ کے سوا جس میں کی جا ہو عبادت کرو۔ تم یہ کہہ دو کہ جتنی نقصان اٹھائیوں اے وہی میں جو قیامت کے

انفسهم و اهلهم يوم القيمة ذلك هو الخسران

دن اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو عیال کو نقصان پہنچائیں گے۔ خبردار رہو۔ کھلا نقصان ہی تو

المبين لهم من قوم ظلك من النار ومن تختم ظلك

ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر کی طرف سے بھی آگ کی جھپٹیں کی جھپٹیں ہوئی اور ان کو نیچے کی طرف سے بھی آگ

ذلك يخوف الله به عباده ليعبادوا فالتعون و الذين

کی نہیں (ہوئی بھی تو وہ عذاب) اور جس کو خدا انہوں میں کو ڈرانا رہتا ہے۔ امیر بند اب تم مجھ سے ڈرو۔ اور جو لوگ

اجتنبوا الطاعوت ان يعبدوها و انابوا الى الله لهم

طاعت سے بچتے رہ کر اس کی عبادت نہ کریں اور خدا کی طرف رجوع کرنے رہے بشارت انہی کے لیے

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون

ہے پس تم میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے رہے اور ان میں سے سب سے بہتر کی پیروی

احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم

کے زریعہ خوشخبری سنا دو کہ وہ وہی ہیں جن کو خدا ایمان لانے پر اپنی فرمائی اور وہی

اولوا الالباب امن حق عليه كلمة العذاب افانت

عقلند ہیں۔ کیا وہ شخص جو حکم عذاب ٹھیک آرا قائل بشارت ہو سکتا ہے کیا تم اس کو جو

وہی ہے جو سورہ بقرہ میں ہے اور اس کی تفسیر صحافی میں ہے اور وہی نام ہے جو سورہ بقرہ میں ہے اور اس کی تفسیر صحافی میں ہے۔

کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اہل عقل و فہم کو بشارت دی ہے چنانچہ فرمایا ہے فبشر عبادوا حج اور جناب الامم جعفر صادق

تَتَقَدُّ مِنْ فِي النَّارِ لَكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ عَرَفُوا

جو تم میں سے بچا ہو چھڑا سکتے ہو، لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بندہ مکان

مِنْ فَوْقَهَا عَرَفُوا مَنِيَّةَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ہونگے اور ان کے اوپر اور اُسے مکان بنی ہوئی ہونگے جن کے نیچے تیزیاں بہتی ہوں گی۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنی وعدہ کو خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ

پانی اُمتارا پھر زمین میں اُس کے نیچے بنا کر جاری کر دیا پھر اُس کے ذریعہ سبز رنگ برنگ

بِهَ زُرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْدِيهِ فَيَرْسُلُهُ فِي مَصْفَرٍ أَسْفَلَ

کی کھیتی پیدا کرتا ہے پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے پھر اُس کو سوزد ہوا دیکھ لیتی ہو پھر وہ اُس کو کھلیا

حُكَمَا طَائِفَاتٍ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لَأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ

کر دیتا ہے بیشک عقلمندوں کے لیے اس میں بھی نصیحت موجود ہے کیا وہ شخص جس کے سینے کو

اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّن رَّبِّهِ طَفَوِيلٌ

اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنی پروردگار کی طرف سے نور (ہدایت) پر ہے (یا کوئی اور) پس اُس کو

لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اُن لوگوں پر ہے جن کے دل یا وعدہ کرنے سے سخت ہو گئے ہیں وہی تو کھلی گمراہی میں ہیں۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا

اللہ وہی تو جو سچے سچے اور سچی بات نازل فرمائی (یعنی ایک کتاب جیسی آیتیں ایک دوسری کی تہی جلتی ہیں اور پھر

تَقْشُرُ مِنْهَا جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنَ

لکھرائی ہیں اُس کی جو لوگ اپنی پروردگار سے ڈرتے ہیں اُن کے رونگٹے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر اُن کے جسم اور اُن کے

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ط ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ

دل تو رہا جاتے ہیں (اور) اُنہی کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہی تو خدا کی ہدایت ہے جو کوئی

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'مذکور' (Muzkur) in a box. The notes discuss the meaning of the verses and provide additional context.

۱۰۱

۱۰۲

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'الزمر' (Al-Zumr) on the left and 'وما لہ' (Wama lahu) on the right.

يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اور جس کو خدا تعالیٰ توفیق ہدایت سلب کر لے تو اس کا راہبر کوئی نہیں ہوتا۔

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ

پھر کیا وہ شخص جو اپنی ذات کو قیامت کو دن بڑی بڑی عذاب سے بچانے (اسے محفوظ رکھنے والا ہے) براہ راست ہدایت کے لیے

لِلظَّالِمِينَ ذُو قَوْمٍ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ سَعِينٌ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

ناظرانوں سے (اس نے) یہ کہا جانتا تھا کہ تم جو کچھ کیا کرتے ہو اس کا برا بھلا نہیں ہوگا۔ جو لوگ انہیں ہدایت نہیں دیتے (پھر انہیں تو)

قَبْلَهُمْ فَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

قبل ان کے پہنچے ان پر عذاب بھی اس طرح آیا کہ یہ کچھ نہ سمجھے۔

فَإِذَا قُضِيَ لِلَّهِ الْأَمْرُ الْأَخِيرُ أَذْهَبَ اللَّهُ الْخَازِنَةَ وَالْأَخْيَارَ

پس اللہ نے زندگی کا اپنی دنیا میں تو ان کو رسوائی کا سزا چکھایا اور آخرت کا عذاب

الْآخِرَةَ الْكُبْرَىٰ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ خَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي

اور بڑھا ہوا ہے کاش یہ اسے سمجھتے! اور ہم تو انہیں کیلئے اس قرآن میں ہر طرح

هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا

کی مثل بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی زبان میں

عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَمَمٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

ہر طرح کی جہی سے بری ہے (جسلی غرض یہ ہے کہ وہ (خدا سے) ڈریں۔ خدا نے مثل بیان کی تو ایک ایسی

زَجَلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَابِهُونَ وَرَجُلًا سَلَبًا لِرَجُلٍ هَلْ

مزدکی جس میں کئی ایک جھگڑا الوصہ داروں اور ایک ایسے مرد کی دو سالم اور فاسد ایک ہی شخص کا ہو۔ آیا

يَسْتَوِينَ مَثَلًا لِمَنْ لَمْ يَلِكْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مِمَّنِ

مثل میں دو ذریعہ ہو سکتے ہیں، ہر قسم کی تعریف خدا کی کوئی زیادہ ہو کر ان میں تو اکثر یہی نہیں جانتے۔ تم جو یقیناً مرنے والے ہو

وَأَنْتُمْ مِمَّنِ ۖ ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ مُخْتَصِمُونَ

اور یہ بھی ضرور مرنے والے ہو گے۔ پھر قیامت کو دن تم سب کو سب ضرور اپنی ہر دور کار کو پاس بٹھارتے ہوئے آؤ گے۔

Extensive vertical handwritten notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.